



Unit No.1

Fair Dealing of Hazrat Muhammad (ﷺ)

حضور اکرم ﷺ کا منصفانہ لین دین

Pre-Reading Activity قبل از مطالعہ کی سرگرمی

1. What is fair dealing?

منصفانہ لین دین کیا ہے؟

Ans. Fair dealing means to be fair and honest in our dealings with others.

منصفانہ لین دین کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین میں منصف اور ایماندار ہونا۔

2. What are the characteristics of a fair trader?

ایک دیانت دار تاجر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟

Ans. A fair trader is always fair, honest, true and trust worthy in his dealing with others.

ایک دیانت دار تاجر دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات میں ہمیشہ کھرا، ایماندار، سچا اور قابل اعتماد ہوتا ہے۔

سبق کا اردو ترجمہ Translation of the text into Urdu

Hazrat Muhammad ﷺ	was	always	fair	and	honest	in	his	dealing	with	other	people
حضرت محمد ﷺ	داز	آلوہیز	فیر	اینڈ	آہسٹ	ان	ہر	ڈیلنگ	وڈ	اور	پپل
حضرت محمد ﷺ	تھے	ہمیشہ	انصاف پسند	اور	ایماندار	میں	اپنے	معاملات	کے ساتھ	دوسرے	لوگوں

even	before	his	nabuwat	Hazrat Muhammad ﷺ was always fair and honest in his dealing with other people even before his nabuwat.
ایون	بی فور	ہر	نبوت	حضرت محمد ﷺ اپنی نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف پسند اور ایماندار تھے۔
بھی	پہلے	اپنی	نبوت	

He	was	known	as	the	truthful	and	the	trustworthy
ہی	داز	نون	ایز	دا	ٹرو تھ فل	اینڈ	دا	ٹرسٹ ورڈی
آپ ﷺ	تھے	مشہور	کے طور پر	سچے	اور	قابل اعتماد		

In	his	young	age	he	became	a	trader	In his young age, he became a trader.
ان	ہر	یک	ایج	ہی	بی کیم	اے	ٹریڈر	آپ ﷺ چھوٹی عمر میں ایک تاجر بن گئے۔
میں	اپنی	چھوٹی	عمر	آپ ﷺ	بن گئے	ایک	تاجر	

He	traded	with	other	people's	money	with	great	care	and	was	very	successful
ہی	ٹریڈڈ	وڈ	اور	پپلز	منی	وڈ	گریٹ	کیئر	اینڈ	داز	ویری	سکسیس فل
آپ ﷺ نے	تجارت کی	کے ساتھ	دوسرے	لوگوں کی	رقم	ساتھ	بڑی	احتیاط	اور	تھے	بہت	کامیاب

He traded with other people's money with great care, and was very successful.
آپ ﷺ نے دوسرے لوگوں کی رقم سے بڑی ذمہ داری سے تجارت کی اور بہت کامیاب رہے۔

The	people	of	Makkah	were	much	impressed	by	his	trading	skills	and	fair	dealing
دا	پپل	آف	مکہ	ور	مچ	امپریسڈ	بائی	ہر	ٹریڈنگ	سکلز	اینڈ	فیر	ڈیلنگ
لوگ	کے	مکہ	تھے	بہت	متاثر ہوئے	سے	آپ ﷺ کی	تجارت کی	مہارتوں	اور	منصفانہ	لین دین	

The people of Makkah were much impressed by his trading skills and fair dealing.
مکہ کے لوگ آپ ﷺ کی تجارت کی مہارتوں سے بہت متاثر ہوئے۔



They	had	complete	trust	in	him
دے	ہیڈ	کمپلیٹ	ٹرسٹ	ان	ہم
آپ ﷺ	میں	اعتماد	مکمل	رکھتے تھے	وہ

وہ آپ ﷺ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ They had complete trust in him.

It	was	his	honesty	and	fair	dealing	in	business	that	impressed	Hazrat Khadijah (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)
اٹ	واز	ہز	آئسٹی	اینڈ	فیر	ڈیلنگ	ان	بزنس	دیت	امپریسڈ	حضرت خدیجہؓ
یہ	تھی	آپ ﷺ کی	ایمانداری	اور	منصفانہ	لین دین	میں	کاروبار	جس نے	متاثر کیا	حضرت خدیجہؓ

It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khadijah (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

یہ آپ ﷺ کی کاروبار میں ایمانداری اور منصفانہ لین دین ہی تھا جس نے حضرت خدیجہ کو متاثر کیا۔

She	first	entrusted	her	enterprise	to	him	and	later	married	him
شی	فٹ	انٹرسٹڈ	ہر	انٹرپرائز	ٹو	ہم	اینڈ	لیٹر	میریڈ	ہم
انہوں نے	پہلے	سپرد کیا	اپنا	کاروبار	کو	آپ ﷺ	اور	بعد میں	شادی کر لی	آپ ﷺ سے

She first entrusted her enterprise to him and later married him.

انہوں نے پہلے اپنا کاروبار آپ ﷺ کے سپرد کیا اور بعد میں آپ ﷺ سے شادی کر لی۔

All	the	people	who	had	done	business	dealing	with	him	before	his	nabuwat	had
آل	ڈا	پپل	ہو	ہیڈ	ڈن	بزنس	ڈیلنگ	وڈ	ہم	بی فور	ہز	نابو واٹ	ہاڈ
تمام	لوگ	جنہوں نے	کیا	تھا	کاروبار	ساتھ	لین دین	آپ ﷺ کے	پہلے	آپ ﷺ کی	نبوت	تھی	

All the people who had done

business dealing with him before

his Nabuwat had always praised his

honesty and dealing. وہ تمام لوگ جنہوں نے نبوت سے پہلے آپ ﷺ کے ساتھ کاروباری لین دین کیا وہ ہمیشہ آپ ﷺ کی ایمانداری اور منصفانہ لین دین کی تعریف کرتے تھے۔

Guidelines for the Teacher: معلم کے لئے رہنما اصول

☆ Conduct pre-reading activity to create students' interest in the text and to assess their previous knowledge on the topic.

سبق میں طلباء کی دلچسپی پیدا کرنے اور موضوع پر ان کے سابقہ علم کا اندازہ لگانے کے لئے قبل از مطالعہ سرگرمی کا اہتمام کریں۔

☆ Help students analyze paragraphs in the text as a larger meaningful unit of expression with topic sentence and supporting details.

موضوعاتی جملے اور معاون تفصیلات کے ساتھ ایک بڑے با معنی یونٹ کے اظہار کے لئے سبق کے ہیروں کے تجزیہ میں طلباء کی مدد کریں۔

Q. What impressed the people of Makkah about the Rasool ﷺ?

رسول ﷺ کی کس بات نے اہل مکہ کو متاثر کیا؟

Ans. The people of Makkah were impressed by his honesty and fair dealing business.

مکہ کے لوگ آپ ﷺ کی کاروباری ایمانداری اور منصفانہ لین دین سے متاثر تھے۔

ENGLISH FOR 6TH CLASS (UNIT # 01)

The Rasool ﷺ	gave	great	importance	to	fair	dealing	in	business	throughout	his	life	and
دارسول ﷺ	دیو	گریت	امپورٹنس	ٹو	فیئر	ڈیلنگ	ان	بزنس	تھرواؤٹ	ہر	لائف	اینڈ
رسول ﷺ	دی	بہت	اہمیت	کو	منصفانہ	لین دین	میں	کاروبار	ساری	اپنی	زندگی	اور
set	himself	as	a	role model	for	the whole	world	The Rasool ﷺ gave great importance to fair dealing in business throughout his life and set himself as a role model for the whole world.				
سیٹ	ہم سیلف	ایز	اے	رول ماڈل	فار	دا ہول	ورلڈ					
پیش کیا	خود کو	طور پر	ایک	نمونہ	کے لئے	پوری	دنیا					

رسول ﷺ نے اپنی ساری زندگی میں کاروبار میں منصفانہ لین دین کو بہت اہمیت دی اور پوری دنیا کے لئے خود کو بطور نمونہ پیش کیا۔

Many	incidents	can be	quoted	from	the life	of	Rasool ﷺ	Hazrat Muhammad ﷺ	to			
مئی	انسی ڈینٹس	کین بی	کوئڈ	فرام	دی لائف	آف	رسول ﷺ	حضرت محمد ﷺ	ٹو			
بہت سے	واقعات	دیا جاسکتا ہے	حوالہ	میں سے	زندگی	کی	رسول ﷺ	حضرت محمد ﷺ	کے لئے			
show	how	just	and	fair	he	was	in his	business	dealing	with	other	people
شو	ہاؤ	جسٹ	اینڈ	فیئر	ہی	واز	ان	ہر	ڈیلنگ	وو	اور	پپل
ظاہر کرنے	کتنے	دیانت دار	اور	انصاف پسند	آپ ﷺ	تھے	میں	اپنے	کاروبار	لین دین	کے ساتھ	دوسرے لوگوں

Many incidents can be quoted from the life of Rasool Hazrat Muhammad ﷺ to show how just and fair he was in his business dealing with other people. رسول ﷺ کی زندگی میں سے بہت سے واقعات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ﷺ دوسرے لوگوں کے ساتھ کاروباری لین دین میں کتنے دیانت دار اور انصاف پسند تھے۔

Once	the Rasool ﷺ	borrowed	a	camel	from	someone	and	returned	a	better one
ونس	دارسول ﷺ	باروڈ	اے	کیمل	فرام	سمون	اینڈ	ریٹرنڈ	اے	بٹرون
ایک دفعہ	رسول ﷺ	ادھار لیا	ایک	اونٹ	سے	کسی شخص	اور	واپس کیا	ایک	بہتر

Once the Rasool ﷺ borrowed a camel from someone and returned by a better one. ایک دفعہ رسول ﷺ نے کسی شخص سے ایک اونٹ ادھار لیا اور اسے اس سے ایک بہتر واپس کیا۔

Then	he ﷺ	said	The best	people	are	those	who	pay off	their	debts	joyfully	(Sahi Muslim)
دین	ہی ﷺ	سڈ	دا بیسٹ	پپل	آر	ڈوز	ہو	پے آف	ڈیٹس	ڈیٹس	جوائی	(صحیح مسلم)
پھر	آپ ﷺ نے	کہا	بہترین	لوگ	ہیں	وہ	جو	ادا کرتے ہیں	اپنے	قرض	خوشی سے	(صحیح مسلم)

Then he (ﷺ) said "The best people are those who pay off their debts joyfully." (Sahi Muslim) پھر آپ ﷺ نے فرمایا "بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے قرض خوشی سے ادا کرتے ہیں۔" (صحیح مسلم)

The Rasool ﷺ	always	instructed	his	companions	to	be	fair	in	business	dealing	in
دارسول ﷺ	آلوویز	انسٹرکٹڈ	ہر	کے پیسنرز	ٹو	بی	فیئر	ان	بزنس	ڈیلنگ	ان
رسول ﷺ	ہمیشہ	ہدایت کی	اپنے	اصحاب	کی	منصفانہ	پسند	رہنے	میں	کاروبار	لین دین
their	practical	life	The Rasool (ﷺ) always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life.								
دین	پریکٹیکل	لائف									
اپنی	عملی	زندگی	رسول ﷺ ہمیشہ اپنے اصحاب کو ہدایت فرماتے تھے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں کاروباری لین دین میں انصاف پسند رہیں۔								

Hazrat Abu Saeed (رضی اللہ عنہ)	reported	the Rasool (ﷺ)	as	saying	The truthful	and	trustworthy	
حضرت ابوسعیدؓ	رپورٹڈ	دارسول ﷺ	ایز	سے آنگ	دی ٹروتھ فُل	اینڈ	ٹرسٹ وروی	
حضرت ابوسعیدؓ	روایت کی	رسول ﷺ	یہ	کہتے ہوئے	سچے	اور	قابل اعتماد	
merchant	is	associated	with	Anbiya	the uprights	and	the martyrs	Ibn Majah
مرچنٹ	از	ایسوسی ایٹڈ	وڈ	انبیا	دی اپ رائٹس	اینڈ	دی مارٹیرز	ابن ماجہ
تاجر	ہے	شامل	ساتھ	انبیا	راست بازوں	اور	شہدا	ابن ماجہ

Hazrat Abu Saeed (رضی اللہ عنہ) reported the Rasool (ﷺ) as saying, "The truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs." (Ibn-e-Majah)

حضرت ابوسعیدؓ رسول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ سچا اور قابل اعتماد تاجر انبیا، راست بازوں اور شہداء میں شامل ہے۔ (ابن ماجہ)

Q. What is the status of the trustful and trustworthy merchant? سچے اور قابل اعتماد تاجر کا کیا مقام ہے؟
Ans. The trustful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs. سچا اور قابل اعتماد تاجر انبیا، راست بازوں اور شہداء میں شامل ہوگا۔

The Rasool (ﷺ)	also	advised	his	companions	to	avoid	doubtful	things	in	business	dealing
دارسول ﷺ	آسو	ایڈوائزڈ	ہر	کے پیچیز	نو	اوائیڈ	ڈاؤٹ فُل	تھنگو	ان	بزنس	ڈیلنگ
رسول ﷺ	بھی	نصیحت کی	اپنے	صحاب	کی	دور رہنے	مشتبہ	چیزیں	میں	کاروبار	لین دین

The Rasool (ﷺ) also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing.

رسول ﷺ نے اپنے اصحاب کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ کاروباری لین دین میں مشتبہ چیزوں سے دور رہیں۔

Hazrat Nauman bin Bashir (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)	reported	the Rasool (ﷺ)	as	saying	What	is	lawful	is						
حضرت نعمان بن بشیرؓ	رپورٹڈ	دارسول ﷺ	ایز	سے آنگ	وٹ	از	لاؤ فُل	از						
حضرت نعمان بن بشیرؓ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)	اطلاع کی	رسول ﷺ	ایسا	کہتے ہوئے	جو	ہے	جائز	ہے						
clear	and	what	is	unlawful	is	also	clear	but	between	them	are	certain	doubtful	things
کلیر	اینڈ	وٹ	از	ان لاء فُل	از	آسو	کلیر	بٹ	بیوین	دیم	آر	سرٹین	ڈاؤٹ فُل	تھنگو
واضح	اور	جو	ہے	نا جائز	بھی	واضح	لیکن	درمیان	ان کے	ہیں	کچھ	مشتبہ	چیزیں	

Hazrat Nauman bin Bashir (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) reported the Rasool (ﷺ) as saying, "What is lawful is clear and what is unlawful is also clear but between them are certain doubtful things which many people do not recognise."

حضرت نعمان بن بشیرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا "جو کچھ جائز ہے وہ واضح ہے اور جو کچھ ناجائز ہے وہ بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں پہچانتے۔"

He	who	guards	against	doubtful	things	keeps	his	religion	and	his	honour	blameless	but	he
ہی	ہو	گارڈز	اگینٹ	ڈاؤٹ فُل	تھنگو	کیپس	ہر	رلیجن	اینڈ	ہر	آنر	بلیم لیس	بٹ	ہی
وہ		بچاتا ہے	سے	مشتبہ	چیزوں	اپنے	دین	اور	اپنی	عزت	پاک	لیکن	وہ	

He who guards against doubtful things keeps his religion and his honour blameless but he who falls into doubtful things falls into what is unlawful. (Tirmzi)

who	falls	into	doubtful	things	falls	into	what	is	unlawful	Tirmzi
ہو	قاتر	ان	ذاتِ نقل	تھنکر	قاتر	ان	وٹ	از	ان لاءِ نقل	ترمذی
جو	پڑ جاتا ہے	میں	مشتبہ	چیزوں	گر جاتا ہے	میں	جو	ہے	نا جائز	ترمذی

جو شخص خود کو مشتبہ چیزوں سے بچاتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کو پاک رکھتا ہے لیکن جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ ناجائز باتوں میں گر جاتا ہے۔ (ترمذی)

Hazrat Jabir (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)	reported	the Rasool (ﷺ)	as	saying	Allah	shows	mercy	to	the man
حضرت جابرؓ	رپورٹڈ	دارسول ﷺ	ایز	سے ایگ	اللہ	شوز	مری	نو	دا مین
حضرت جابرؓ	اطلاع کی	رسول ﷺ	ایسا	کہتے ہوئے	اللہ	کرتا ہے	رحم	پا	فخص

who	is	kind	when	he	sells	when	he	buys	and	when	he	makes	a	claim	Bukhari
ہو	از	کائنڈ	دین	ہی	سیلز	دین	ہی	بائز	اینڈ	دین	ہی	میکس	اے	کلیم	بخاری
جو	ہوتا ہے	مہربان	جب	وہ	بیچتا ہے	جب	وہ	خریدتا ہے	اور	جب	وہ	کرتا ہے	ایک	تقاضہ	بخاری

Hazrat Jabir (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) reported the Rasool (ﷺ) as saying, "Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim. (Bukhari) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا "اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو اس وقت مہربان ہوتا ہے جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے اور جب وہ کوئی تقاضہ کرتا ہے۔"

Q. Why should we avoid doubtful things in business dealing?

ہمیں کاروباری لین دین میں مشتبہ چیزوں سے کیوں بچنا چاہئے؟

Ans. We should avoid doubtful things in business dealing to keep our religion and our honour blameless. Moreover, he who falls into doubtful things, falls into what is unlawful.

ہمیں اپنے دین اور عزت کے بے داغ بنانے کے لئے کاروباری لین دین میں مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہئے۔ علاوہ ازیں جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔

Guidelines for the Teacher: معلم کے لئے رہنما اصول

☆ while-reading activity given in the box may be exploited for better understanding of the text in the class. Further questions may also be generated for the said purpose.

جماعت میں مطالعہ کے دوران سبق کی بہتر تفہیم کیلئے باکس میں دی گئی سرگرمی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کیلئے مزید سوالات بھی بنائے جاسکتے ہیں۔

The companions	of	the Rasool (ﷺ)	acted	upon	his	teachings	and	following	his
دا کے مکنز	آف	دارسول ﷺ	ایکٹڈ	اپان	ہز	ٹیچنگز	اینڈ	فالونگ	ہز
اصحاب	کے	رسول ﷺ	عمل کیا	آپ ﷺ کی	تعلیمات	اور	پیروی کرتے ہوئے		

golden	examples	in	business	dealing	laid	the foundation	of	a	pious	welfare	society
گولڈن	ایگز امپل	ان	بزنس	ڈیلنگ	لیڈ	دافتاؤنڈیشن	آف	اے	پائس	ولفیر	سوسائٹی
سنبھری	مثالوں	میں	کاروبار	لین دین	رکھی	بنیاد	کی	ایک	پارسا	فلاحی	معاشرہ

The companions of the Rasool (ﷺ) acted upon his teachings, and following his golden examples in business dealing, laid the foundation of a pious welfare society.

رسول ﷺ نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا اور کاروباری لین دین میں آپ کی سنبھری مثالوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک، پارسلافلاحی معاشرے کی بنیاد رکھی۔

Vocabulary: ذخیرہ الفاظ:

Match the following words with meaning in context. - مطابق لفظوں کو اس کے معنی سے ملائیں۔

business	کاروبار، تجارت، صنعت	occupation, trade, industry
famous	مشہور، ممتاز	prominent, well known, renowned
friends	دوست، مددگار	companions, helpers, groups
incidents	واقعات	happenings, events, circumstances
trustworthy	قابل اعتبار	loyal, responsible, reliable

Guidelines for the Teacher: معلم کے لئے رہنما اصول

☆ Ask students to read some other books on the Holy Prophet Hazrat Muhammad (ﷺ) and share one incident from his life in the class.

طلباء سے کہیں کہ وہ پاک پیغمبر حضرت محمد ﷺ پر کبھی غنی دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں اور آپ ﷺ کی زندگی میں سے کوئی ایک واقعہ جماعت میں سنائیں۔

Reading for Comprehension: مطالعہ برائے تفہیم

A. Read paragraph 1 of the lesson and identify: سبق کا ہی اگر آف نمبر 1 پڑھیں اور شناخت کریں۔

Topic Sentence:	→	Hazrat Muhammad (ﷺ) was always fair and honest in his dealing with other people even before his nabuwat. حضرت محمد ﷺ اپنی نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف پسند اور ایماندار تھے۔
Supporting details: (examples)	→	He was known as the truthful and the trustworthy. In his young age, he became a trader. He traded with other people's money with great care, and was very successful. The people of Makkah were much impressed by his trading skills and fair dealing. They had complete trust in him. It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khadijah (رضی اللہ تعالیٰ عنہا). She first entrusted her enterprise to him and later married him. All the people who had done business dealing with him before his nabuwat had always praised his honesty and fair dealing. آپ ﷺ سچے اور قابل اعتماد ہونے کے طور پر مشہور تھے۔ آپ ﷺ اپنی چھوٹی عمر میں ہی ایک تاجر بن گئے۔ آپ ﷺ نے دوسرے لوگوں کے سرمایہ سے بڑی ذمہ داری سے تجارت کی اور بہت کامیاب رہے۔ مکہ کے لوگ آپ ﷺ کی تجارت کی مہارتوں اور منصفانہ لین دین سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ آپ ﷺ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کی کاروبار میں ایمان داری اور منصفانہ لین دین ہی تھا جس نے حضرت خدیجہ کو متاثر کیا۔ انہوں نے پہلے اپنا کاروبار آپ ﷺ کے سپرد کیا اور بعد میں آپ ﷺ سے شادی کر لی۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے نبوت سے پہلے آپ ﷺ کے ساتھ کاروباری لین دین کیا تھا۔ ہمیشہ ان کی ایمان داری اور منصفانہ لین دین کی تعریف کرتے تھے۔

B. Encircle and write the words in paragraph 1 that connect the sentences within this paragraph. پہلے ہی اگر ان میں ان نکتوں کے گرد دائرہ لگائیں اور انہیں یہاں لکھیں جو جملوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔

Hazrat Muhammad (ﷺ) was always fair and honest in his dealing with other people even before his nabuwat. He was known as the truthful and the trustworthy. In his young age, he became a trader. He traded with other people's money with great care, and was very successful. The people of Makkah were much impressed by his trading skills and fair dealing. They had complete trust in him. It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khadijah (رضی اللہ تعالیٰ عنہا). She first entrusted her enterprise to him and later married him. All the people who had done business dealing with him before his prophethood had always praised his honesty and fair dealing.

C. Answer the following questions: مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔

1. What made the Rasool (ﷺ) famous even before his prophethood?

کس بات نے رسول (ﷺ) کو نبوت سے پہلے ہی مشہور کر دیا؟

Ans: His honesty and fair dealing with the people made him famous even before his Nabuwat. آپ کی ایمانداری اور لوگوں کے ساتھ منصفانہ لین دین نے آپ کو نبوت سے پہلے ہی مشہور کر دیا۔

2. Why did Hazrat Khadijah (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) decide to marry the Holy Prophet Hazrat Muhammad (ﷺ)? حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد (ﷺ) سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟

Ans: Hazrat Khadijah (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) decided to marry the Muhammad (ﷺ) because she was greatly impressed by his honesty and fair dealing in businesses.

حضرت خدیجہ نے رسول (ﷺ) سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ تجارت میں آپ کی ایمانداری اور منصفانہ لین دین سے بہت متاثر تھیں۔

3. Why did the Rasool (ﷺ) instruct his companions to be fair in business dealing? رسول (ﷺ) نے اپنے اصحاب کو کاروباری لین دین میں انصاف پسند رہنے کی کیوں ہدایت کی؟

Ans: The Rasool (ﷺ) instructed his companions to be fair in business dealing because the truthful and trustworthy merchant is associated with the Prophets, the uprights and the martyrs. رسول نے اپنے اصحاب کو کاروباری لین دین میں انصاف پسند رہنے کی ہدایت کی کیونکہ ایماندار اور قابل اعتماد (قیامت کے دن) نبیوں، صدیقین اور شہدائے کے ساتھ ہوگا۔

4. What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? کاروباری لین دین میں مشتبہ امور سے کنارہ کشی کا کیا اثر ہوتا ہے؟

Ans: He who avoids doubtful things in business dealing keeps his religion and honour blameless. جو شخص کاروباری لین دین میں مشتبہ امور سے کنارہ کشی کرتا ہے، وہ اپنا دین اور اپنی عزت بے داغ رکھتا ہے۔

5. How can we be honest and fair in our dealing? ہم اپنے لین دین میں ایماندار اور منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

Ans: We can be honest and fair in our dealing by following the teachings and golden examples in business dealing set by the Rasool Muhammad (ﷺ).

ہم اپنے معاملات میں ایماندار اور منصف مزاج ہو سکتے ہیں اگر ہم رسول (ﷺ) کی تعلیمات اور کاروباری معاملات میں آپ کی سنہری مثالوں پر عمل کریں۔

D. Fill in the blanks with appropriate words.

مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔

1. In his young age, he became a trader.

آپ چھوٹی عمر میں ہی ایک تاجر بن گئے۔

2. The people of Makkah were much impressed by his trading **skills**.
مکہ کے لوگ آپ کی کاروباری مہارتوں سے بہت متاثر تھے۔
3. The truthful and trustworthy merchant is **associated** with the Prophets, the Uprights and the Martyrs.
ایماندار اور قابل اعتبار تاجر (قیامت کے دن) انبیاء، صدیقین اور شہدائے کرام کے ساتھ ہوگا۔
4. He who guards against **doubtful** things keeps his religion and his honour blameless.
وہ جو مشتبہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے اس کا دین اور عزت بے داغ ہوتی ہے۔
5. Allah shows **mercy** to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim.
اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو خرید و فروخت اور دعویٰ کرنے میں رحم دل ہوتا ہے۔

Guidelines for the Teacher: معلم کے لئے رہنما اصول

☆ **Activities A & B:** Ask students to read first paragraph silently to identify topic sentence and supporting details and to find out transitional devices.
سرگرمیاں A اور B: طلباء سے کہیں کہ وہ خاموشی سے پہلا پیرا گراف پڑھیں اور موضوع عالی، جملے اور معاون تفصیلات کو پہچانیں اور عبوری تراکیب ڈھونڈیں۔

Dictionary Skills: لغت کی مہارتیں

A dictionary is a collection of words in one or more specific languages listed alphabetically, with usage, definitions, pronunciations, and other information.
ڈکشنری کسی ایک یا مخصوص زبانوں میں حروف تہجی کے حساب سے ترتیب دیئے ہوئے الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتی ہے جس میں ان کا استعمال، ان کی تعریف، ان کا تلفظ اور دوسری معلومات دی ہوئی ہوتی ہیں۔

Do you have a dictionary?

- ☆ Have you used a dictionary before? کیا آپ نے پہلے کبھی ڈکشنری استعمال کی ہے؟
- ☆ How are words arranged in a dictionary? ڈکشنری کے الفاظ کیسے ترتیب دیئے گئے ہوتے ہیں۔

<p>Ache Ache / eɪk / <i>verb</i> (ached, aching) <i>intr</i> 1 to feel a dull continuous pain. 2 to be the source of a dull continuous pain. <i>noun</i> a dull continuous pain. • aching or achy <i>adj</i> (aching, aches). achieve /ə'tʃi:v/ <i>verb</i> (achieved, achieving) 1 to reach, realize or attain (a goal, ambition, etc), especially through hard work. 2 to earn or gain (a reputation, etc). 3 <i>intr</i> to be successful. • achievable <i>adj</i>. • achiever <i>noun</i>. achievement <i>noun</i> 1 the gaining of something, usually after working hard for it. 2 something that has been done or gained by effort. achievement age <i>noun</i> the level of an individual's educational achievement as determined by comparing his or her score in a test with the average score of other people of the same age. aching and achy see under ACHE achromatic /ækrou'matɪk, eɪ-/ <i>adj</i> 1 without colour. 2 said of a lens: capable of transmitting light without separating it into its constituent colours. • achromatically <i>adverb</i>.</p>	12	<p>Acid rock • achromaticity /ækrou'mətɪsɪti/ or achromatism /ə'krou'mətɪzəm/ <i>noun</i>. acid /'æsɪd/ <i>noun</i> 1 <i>chem</i> any of a group of compounds that have a sour or sharp taste, turn blue litmus paper red, and react with bases to form salts. 2 any sour substance. 3 <i>slang</i> LSD. <i>adj</i> 1 sour to taste. 2 said of remarks, etc: expressing bitterness or anger. 3 said of soil, etc: having an acid reaction. 4 <i>chem</i> containing or having the properties of an acid. 5 <i>pop music</i> relating to ACID HOUSE. • acidly <i>adverb</i>. • put the acid on someone <i>Austral & NZ colloq</i> to pressurize them. acid drop <i>noun</i> a sweet flavoured with tartaric acid. acid-head <i>noun, drug-taking slang</i> someone who takes hallucinogenic drugs. acidic /ə'sɪdɪk/ <i>adj</i> like, or containing, acid. acidity /ə'sɪdɪti/ <i>noun</i> (acidities) 1 the quality of being acid or sour. 2 <i>chem</i> the extent to which a given solution is acid, as indicated by its pH VALUE. acid rock <i>noun</i> a type of rock music featuring bizarre electronic and instrumental effects.</p>
--	----	--

Guide Words: There are two or three boldface guide words at the top of each page.

Guide words help you find the word you want to look up. The guide word on the right shows the last entry on that page. گائیڈ ورڈ: ہر صفحے کے اوپر دو یا تین گائیڈ ورڈ زموٹی تحریر میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں۔ گائیڈ ورڈز آپ کو اس لفظ کو ڈھونڈنے میں مدد دیتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دائیں طرف دیئے ہوئے گائیڈ ورڈز اس صفحے کا آخری اندراج ظاہر کرتے ہیں۔

Entry Words: An entry word is the word that you look up in the dictionary. Entry words are printed in bold and they are listed in alphabetical order. انٹری ورڈز: ایک انٹری ورڈ وہ لفظ ہوتا ہے جسے آپ ڈکشنری میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انٹری ورڈ زموٹی حروف میں لکھے ہوتے ہیں اور وہ حروف تہجی کی ترتیب میں دیئے گئے ہوتے ہیں۔

E. Identify guide words and entry words in the sample dictionary page.

نمونے کے طور پر دیئے گئے ڈکشنری کے صفحے میں سے guide Words اور entry Words کی نشاندہی کریں۔

Ans: Guide Words: Ache, Acid rock

Entry word: Ache, Achieve, Achievement, Achievement age, **aching**, achromatic, achromaticity, acid, acid drop, acid head, acidic, acidity, acid rock

F. Give both the guide words on the following pages of your dictionary.

اپنی ڈکشنری کے درج ذیل صفحات پر دیئے گئے دونوں guide words تحریر کریں۔

Page 10	acrogen	actuality
Page 58	Australian	automatic
Page 97	blood	blow
Page 112	bream	breviary

(As per The Concise Oxford Dictionary)

G. Find the meaning of the following words in the dictionary.

ڈکشنری میں سے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تلاش کریں۔

enterprise, regret, exchange, protest, reward, sacrifice, bridle

Ans:

enterprise:	کاروباری تنظیم	An organization created for business ventures
regret:	پچھتانا	Feel remorse for; feel sorry for; be contrite about
exchange:	باہمی تبادلہ کرنا	The act of changing one thing for another thing
protest:	احتجاج کرنا	Express opposition through action or words
reward:	انعام، اجر	Payment made in return for a service rendered
sacrifice:	قربان کرنا	The act of killing (an animal or person) in order to propitiate a deity
bridle:	لگام	Headgear for a horse; includes a headstall and bit and reins to give the rider or driver control

Grammar گرامر

A. Fill in the blanks using the common nouns given below.

منجھدیے مئے اسمائے مکرہ استعمال کرتے ہوئے خالی جگہیں پر کریں۔

beggar, actor, liar, lawyer, sailor

1. A person who sails on the water is called a sailor. وہ شخص جو پانی پر جہاز رانی کرتا ہے، جہاز ران کہلاتا ہے۔
2. A person who acts in a play is called an actor. وہ شخص جو کسی ڈرامے میں اداکاری کرتا ہے، اداکار کہلاتا ہے۔
3. A person who tells lies is called a liar. وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کہلاتا ہے۔
4. A person who begs is called a beggar. وہ شخص جو بھیک مانگتا ہے، بھکاری کہلاتا ہے۔
5. A person who has studied law is called a lawyer. وہ شخص جس نے قانون پڑھا ہو، وکیل کہلاتا ہے۔

Proper Noun اسم معرفہ

A proper noun is a name of a specific person, place or thing. The first letter of a proper noun is always represented by a capital letter e.g. **K**hadija, **L**ahore.

اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کے پہلے حرف کو ہمیشہ بڑے حرف (Capital letter) سے ظاہر کرتے ہیں مثلاً خدیجہ، لاہور

B. Pick out five nouns from the lesson. سبق میں سے پانچ اسم معرفہ چنیں۔

- Ans:
1. Hazrat Muhammad ﷺ
 2. Makkah مکہ
 3. Hazrat Khadijah رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 4. Hazrat Abu Saeed رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 5. Hazrat Nauman bin Bashir رضی اللہ تعالیٰ عنہ

C. Complete the following sentences with proper nouns. مندرجہ ذیل فقروں کو اسم معرفہ سے پر کریں۔

1. My name is Jamil Ahmad.
2. I live in Lahore.
3. My birthday is in Feburary.
4. My favourite day of the week is Friday.
5. The name of my school is Islah High School.

Possessive Noun: Possessive form of an animate noun shows possession.

ملکیتی اسم: ایک جاندار اسم کی پوزیسیو فارم ملکیت کو ظاہر کرتی ہے۔

When the noun is singular, it is formed possessive by adding 's to the noun.

جب ایک اسم واحد ہو تو اس اسم کے ساتھ 's لگاتے ہیں۔

My mother's hobby is surfing. میری والدہ کا مشغلہ سمندری لہروں پر سرفنگ کرنا ہے۔
The yellow one is my dad's car. زرد رنگ والی میرے والد صاحب کی کار ہے۔

When the noun is plural, and ends in s, the possessive case is formed by adding an apostrophe (').
جب اسم جمع میں ہو اور اس کے آخر میں s آتا ہو تو اس کا ملکیتی اسم بنانے کے لیے صرف حرف اضافت (') لگا دیتے ہیں۔

The cats' food is in the kitchen.

Where is kids' room.

in case of irregular plural noun we add (s), e.g.

اگر جمع میں اسم بے قاعدہ ہو تو ہم اس کے ساتھ ('s) لگاتے ہیں۔ جیسے کہ:

The children's room. بچوں کا کمرہ۔

D. Use an apostrophe to make possessive nouns.

ملکیتی اسماء (possessive nouns) بنانے کے لئے حرف اضافت استعمال کریں۔

Example: Fahad-car, can be written as Fahad's car.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Maria - computer. | <u>Maria's computer</u> | ماریہ کا کمپیوٹر |
| 2. Sana - sister | <u>Sana's sister</u> | ثنا کی بہن |
| 3. The teachers - papers | <u>Teachers' papers</u> | اساتذہ کے کاغذات |
| 4. Latif - pencil | <u>Latif's pencil</u> | لطیف کی پینسل |
| 5. My parents house | <u>My parents' house</u> | میرے والدین کا گھر |

E. Now use these phrases in sentences of your own. اب ان تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔

Maria's computer: ماریہ کا کمپیوٹر: Maria's computer is very expensive. ماریہ کا کمپیوٹر بہت مہنگا ہے۔


Sana's sister: ثنا کی بہن: Sana's sister is my classfellow. ثنا کی بہن میری ہم جماعت ہے۔

Teachers' papers: اساتذہ کے کاغذات: There were teachers' papers scattered on the table. میز پر اساتذہ کے کاغذات بکھرے تھے۔

Latif's pencil: لطیف کی پینسل: I borrowed Latif's pencil today. آج میں نے لطیف کی پینسل ادھار لی۔

My parents' house: میرے والدین کا گھر: There is a large playground near my parent's house. میرے والدین کے گھر کے پاس ایک بڑا کھیل کا میدان ہے۔

Past Tense:



We describe any past event or incident in simple past Tense. We use second form of verb in simple Past Tense. e.g. attained, went, became, caught. فعل ماضی: ہم ماضی کی کسی بھی بات

یاد دہانے کو سادہ فعل ماضی میں بیان کرتے ہیں۔ سادہ فعل ماضی میں ہم verb کی دوسری فارم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ۔

attained, went, became, caught.

F. Read the following sentences taken from the lesson and underline simple past verbs. سبق سے لئے گئے مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیں اور فعل سادہ ماضی کی فارم کے نیچے لکیر لگائیں۔

1. In his young age, he became a trader.
2. He traded with other people's money with great care.
3. The Rasool (ﷺ) advised his companions to avoid doubtful things in business dealing.
4. The Rasool (ﷺ) gave great importance to fair business dealing.

G. Use simple past verbs to complete these sentences.

ان فقروں کو مکمل کرنے کے لئے سادہ فعل ماضی کا فعل (verb) لگائیں۔

1. I _____ a snake last night. (see)
2. She _____ late yesterday. (come)
3. They _____ for a walk on Sunday. (go)
4. We _____ football last week. (play)
5. She _____ a long story in the test. (write)

Ans:

1. I saw a snake last night. میں نے کل رات ایک سانپ دیکھا۔
2. She came late yesterday. وہ کل دیر سے آئی۔
3. They went for a walk on Sunday. وہ اتوار کو سیر کے لئے گئے۔
4. We played football last week. ہم نے پچھلے ہفتے فٹ بال کھیلا۔
5. She wrote a long story in the test. اس نے ٹیسٹ میں ایک لمبائی کہانی لکھی۔

Guidelines for the Teacher: معلم کے لئے رہنما اصول

☆ Help students recognize the form and function of simple Past Tense. Also illustrate the use of this tense. سادہ فعل ماضی کی پہچان اور استعمال میں طلباء کی مدد کریں۔ اس زمانے کا استعمال بھی بیان کریں۔

A regular verb has ed ending e.g. attain attained but an irregular verb does not have ed ending e.g. buy bought.

ایک باقاعدہ فعل (regular verb) -ed پر ختم ہوتا ہے مثلاً attain attained لیکن ایک بے قاعدہ فعل (irregular verb) -ed پر ختم نہیں ہوتا۔ مثلاً buy bought

H. Pick out regular and irregular verbs from the lesson and also write their first and third forms.

سبق میں سے باقاعدہ اور بے قاعدہ افعال کو چنیں اور ان کی پہلی اور تیسری فارم بھی لکھیں۔

Regular Verbs

First Form		Second Form	Third Form
act	عمل کرنا	acted	acted
advise	نصیحت کرنا	advised	advised
associate	شامل ہونا	associated	associated
avoid	بچنا	avoided	avoided
borrow	ادھار لینا	borrowed	borrowed
entrust	حوالے کرنا، سونپنا	entrusted	entrusted
guard	حفاظت کرنا	guarded	guarded
impress	متاثر کرنا	impressed	impressed

instruct	ہدایت دینا	instructed	instructed
marry	شادی کرنا	married	married
praise	تعریف کرنا	praised	praised
quote	حوالہ دینا	quoted	quoted
recognize	پہچاننا	recognized	recognized
return	واپس کرنا	returned	returned
show	دکھانا	showed	showed
trade	تجارت کرنا	traded	traded
trust	اعتماد کرنا	trusted	trusted

Irregular Verbs

First Form		Second Form	Third Form
become	ہو جانا، بن جانا	became	become
buy	خریدنا	bought	bought
do	کرنا	did	done
fall	گرنے	fell	fallen
give	دینا	gave	given
keep	پکڑنا	kept	kept
know	جاننا	knew	known
lay	رکھنا	laid	laid
make	بنانا	made	made
say	کہنا	said	said
sell	بیچنا	sold	sold

1. Capitalize and punctuate the following sentences:

درج ذیل جملوں کا پہلا حرف بڑا کریں اور ان میں رموز اوقاف لگائیں۔

1. what is your name
2. i like my school
3. what a beautiful watch
4. its a great news
5. are they playing football

- Ans**
1. What is your name?
 2. I like my school.
 3. What a beautiful watch!
 4. It's a great news.
 5. Are they playing football?

آپ کا کیا نام ہے؟
 میں اپنے سکول کو پسند کرتا ہوں۔
 کتنی خوبصورت گھڑی ہے۔
 یہ بہت بڑی خبر ہے۔
 کیا وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں؟



I. Pronunciation Key In a Dictionary: لغت میں کلید تلفظ

Consonant Symbols

Symbol	Word	Symbol	Word	Symbol	Word
p	pin	f	fast	h	hat
b	bat	v	van	m	mat
t	ten	θ	thin	n	name
d	day	ð	they	ŋ	sing
k	cat	s	say	l	light
g	get	z	zebra	r	right
tʃ	chain	ʃ	shine	j	yes
dʒ	jam	ʒ	pleasure	w	wet

Vowel Symbols

Symbol	Word	Symbol	Word	Symbol	Word
i:	seat	ɑ:	cart	ʊ	pull
ɪ	sit	ʌ	bud	u:	pool
e	bed	ɔ:	board	ɜ:	bird
æ	man	ɒ	lot	ə	away
Gliding Vowels: Diphthongs					
aɪ	time	əʊ	go	eə	hare
aʊ	now	ɔɪ	boy	ʊə	poor
eɪ	late	ɪə	here		

Guidelines for the Teacher: معلم کے لئے رہنما اصول

- ☆ Help the students to understand the regular and irregular forms of verbs. Make a sufficient revision before solving this exercise.
ریگولر اور اریگولر افعال کی حالتوں کو سمجھنے میں طلباء کی مدد کریں۔ اس مشق کو حل کرنے سے پہلے کافی دہرائی کرائیں۔
- ☆ Help them read Pronunciation Key given above and consult dictionary for better understanding.
اوپر دی گئی کلید تلفظ پڑھنے میں ان کی مدد کریں اور بہتر تفہیم کے لئے لغات سے رجوع کریں۔

J. Give pronunciation of the following words as given in your dictionary.

درج ذیل الفاظ کا تلفظ دیں جو آپ کی ڈکشنری میں دیا گیا ہے۔

Ans:

age	eyj	ایج
profit	pro'- fit	پرافٹ
honesty	o'-ni-stee	اونیسٹی
famous	fey-mus	فینس
advised	ud' vlzd	ایڈوائزڈ

Change the following sentences into negative and Interrogative.

مندرجہ ذیل جملوں کو منفی اور سوالیہ فقروں میں تبدیل کریں۔
اس نے ایک قلم خریدا۔

مثال: He bought a new pen.

He did not buy a new pen. (Negative) Did he buy a new pen. (Interrogative)

Birds flew in the air.

2. They worked hard in exams.

We looked at the map.

4. The man killed a snake.

I wrote a letter.

1. Birds flew in the air.

پرندے ہوا میں اڑے۔

Did birds fly?

(Interrogative) کیا پرندے ہوا میں اڑے۔

Birds did not fly.

(Negative) پرندے ہوا میں نہیں اڑے۔

2. They worked hard in exams.

انہوں نے امتحان میں محنت کی۔

Did they work hard in exams?

(Interrogative) کیا انہوں نے امتحان میں محنت کی؟

They did not work hard in exams.

(Negative) انہوں نے امتحان میں محنت نہیں کی۔

3. We looked at the map.

ہم نے نقشہ دیکھا۔

Did we look at the map?

(Interrogative) کیا ہم نے نقشہ دیکھا؟

We did not look at the map.

(Negative) ہم نے نقشہ نہیں دیکھا۔

4. The man killed a snake.

آدی نے سانپ کو مار ڈالا۔

Did the man kill a snake?

(Interrogative) کیا آدی نے سانپ کو مار ڈالا؟

A man did not kill a snake.

(Negative) آدی نے سانپ کو نہیں مار ڈالا۔

5. I wrote a letter.

میں نے ایک خط لکھا۔

Did I write a letter?

(Interrogative) کیا میں نے ایک خط لکھا؟

I did not write a letter.

(Negative) میں نے ایک خط نہیں لکھا۔

معلم کے لئے رہنما اصول Guidelines for the Teacher

☆ Help students identify statements, questions and exclamatory sentences and punctuate accordingly. بیانیہ، سوالیہ اور فحاشیہ جملوں کی شناخت اور رموز و اوتاف کے درست استعمال میں طلباء کی مدد کریں۔

☆ Explain to students the rules to change a simple past tense into negative and interrogative. طلباء کو سادہ فعل ماضی کو منفی اور سوالیہ بنانے کے اصولوں کی وضاحت کریں۔

☆ Sample rubric for marking writing activities are given at the end of the book.

تحریری سرگرمیوں کے نمبر لگانے کے لئے نمونے کی ہدایات کتاب کے آخر میں دی گئی ہیں۔

Write five sentences on what you did this morning before coming to school.

(Use simple past) آج صبح سکول آنے سے پہلے آپ نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں پانچ فقرے لکھیں (سادہ فعل ماضی استعمال کریں)

مثال: I got up early in the morning.

میں صبح سویرے اٹھا۔